



اعلانِ حقوق

زیر حراست شخص کو فراہم کرنا منشیات کی اسمگلنگ

درجہ ذیل معلومات آپ کو ایک ایسی زبان میں فراہم کرنا ضروری ہے جو آپ کو سمجھ آتی ہو

آپ اس دستاویز کو دورانِ حراست محفوظ رکھ سکتے ہیں۔

آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ پولیس حراست میں ہے کیونکہ ایک یا کئی معقول وجوہات کے بنیاد پر آپ پر شبہ ہے کہ آپ نے جرم یا منشیات کی اسمگلنگ کی ہے یا کرنے کی کوشش کی ہے۔

آپ اس جرم یا خطا جس کا مبینہ طور پر آپ مرتکب ہوئے ہیں اور جس کی بدولت آپ کو چیلنج کیا گیا ہے اس کی اہلیت، جگہ اور تاریخ کے ساتھ ساتھ حراست میں رکھنے کے محرکات جاننے کا حق رکھتے ہیں۔

ان حقائق کے حوالے سے آپ کو دورانِ حراست، جو چوبیس گھنٹوں تک طویل ہو سکتی ہے، سنا جائے گا۔

اس مدت گزرنے کے بعد، سرکاری وکیل یا مجسٹریٹ حراست میں مزید چوبیس گھنٹوں کی توسیع کر سکتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو آپ کو اس مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا، بصورت دیگر ویڈیو کانفرس (Videoconferencing) کے ذریعے پیشی ہوگی۔

غیر معمولی طور پر، اگر تفتیش یا تحقیقات کی لوازمات کیلئے ضروری سمجھا گیا ہو تو جج آف لیبرٹیز اینڈ ڈیٹنشن، سرکاری وکیل یا مجسٹریٹ کے درخواست پر دو مزید چوبیس گھنٹوں کے توسیعات کا فیصلہ کر سکتا ہے۔

تاہم، اگر پہلے اٹھالیس گھنٹوں کے اختتام پر تفتیش کیلئے مزید ضرورت پڑے تو جج آف لیبرٹیز اینڈ ڈیٹنشن سرکاری وکیل یا مجسٹریٹ کی درخواست پر حراست میں صرف ایک مرتبہ مزید اٹھالیس گھنٹوں کے اضافے کا فیصلہ سنا سکتا ہے۔

حراست سے رہائی پانے کے بعد آپ کو سرکاری وکیل یا مجسٹریٹ کے فیصلے پر یا تو اس مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا یا رہا کیا جائے گا۔ پہلی صورت میں آپ اپنے حراست کے اختتام پر زیادہ سے زیادہ 20 گھنٹوں میں ایک جج کے سامنے حاضر ہوں گے بشرطیکہ آپ کو 72 گھنٹوں سے زیادہ حراست میں رکھا گیا ہو۔

اسکے علاوہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو مندرجہ ذیل حقوق حاصل ہیں:

کچھ افراد کو اطلاع دیں

آپ اپنے حراست کے حوالے سے کسی بھی شخص کو جس کے ساتھ آپ عام طور پر رہتے ہیں یا والدین میں سے کسی ایک کو یا کسی ایک بھائی یا بہن کو یا کسی سرپرست کو، بذریعہ ٹیلیفون اطلاع دینے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔

آپ اپنے مالک یعنی آجر کو بھی اطلاع دے سکتے ہیں۔

اگر آپ غیر ملکی ہے، آپ اپنے ملک کے قونصلر حکام کو بھی اطلاع دے سکتے ہیں۔

تاہم سرکاری وکیل یا مجسٹریٹ تحقیقات کے ضروریات کو مدنظر رکھ کر ان مطالبات کو رد کر سکتا ہے۔

سوائے ناگزیر حالات کے، درخواست دائر کرنے کے زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے بعد کیس پر عمل درآمد شروع ہوگا۔

ڈاکٹر آپ کا طبی معائنہ کرے گا

آپ حراست کے شروع میں یا حراست میں توسیع کی صورت میں طبی معائنہ کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ حراست میں پہلی توسیع کی صورت میں، ڈاکٹر آپ کا معائنہ لازمی کرے گا اور آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ آپ دوبارہ طبی معائنہ کا حق رکھتے ہیں اور اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔

آپ بیانات دینے، سوالات کے جوابات دینے یا خاموش رہنے کا حق رکھتے ہیں۔

اپنے آپ کو متعارف کرانے کے بعد، آپ کو دورانِ سماعت درجہ ذیل حقوق حاصل ہیں:

- کے بیانات دیں۔

- ان سوالات کے جوابات دیں جو آپ سے پوچھے گئے ہوں،

- یا خاموشی اختیار کریں۔

وکیل سے ملاقات

- وکیل کا انتخاب

حراست کے شروع سے اور حراست میں توسیع کی صورت میں، اس توسیع کی ابتدا میں، آپ وکیل کے خدمات حاصل کرنے کیلئے اپنی مرضی کے وکیل کا مطالبہ کرسکتے ہیں۔ اگر آپ ایک وکیل مقرر کرنے کے قابل نہیں ہے یا منتخب وکیل سے رابطہ ممکن نہیں ہوسکتا تو آپ کورٹ سے مطالبہ کرسکتے ہیں کہ آپ کیلئے ایک وکیل مقرر کریں۔

کوئی بھی شخص جس کو آپ نے اطلاع دی ہو وہ آپ کیلئے وکیل نامزد کرسکتا ہے۔ اس صورت میں آپ وکیل کے نامزدگی کی تصدیق کریں گے۔

- وکیل کی خدمات

نامزد وکیل کرسکیں گے:

- آپ کے ساتھ 30 منٹ تک ملاقات کریں حراست کی توسیع کی صورت میں ، آپ وکیل کے ساتھ اس حراست کے شروع میں ایک مرتبہ پھر ملنے کا مطالبہ کرسکتے ہیں۔
- اگر آپ مطالبہ کریں تو آپ کی سماعت میں شرکت بھی کرسکیں گے۔

- عمل درآمد کا وقت

-تفتیش کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں فوراً سماعت ناگزیر ہو سرکاری وکیل یا مجسٹریٹ تحریری اور مدلل فیصلہ دے سکتا ہے کہ آپ کی سماعت دو گھنٹے کی مدت ختم ہونے سے پہلے شروع کریں۔ یہ دوگھنٹوں کی مدت آپ کے وکیل کے آنے کیلئے دیے جاتے ہیں۔

-آپ کے وکیل کی شرکت بعض ضروری وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ 72 گھنٹوں کیلئے موخر بھی کیا جاسکتا ہے۔

ترجمان کی خدمات

اگر آپ فرانسیسی زبان نہیں بولتے یا سمجھ نہیں اتی تو سماعت کے دوران اور اپنے وکیل کیساتھ بات چیت کیلئے آپ ترجمان کے خدمات سے مستفید ہونے کا حق رکھتے ہیں۔

آپ حراست ختم کرنے کے مطالبے کا حق رکھتے ہیں۔

آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ سرکاری وکیل یا مجسٹریٹ یا جج آف لیبرٹیز اینڈ ڈیٹنشن کیطرف سے حراست میں توسیع کے فیصلے کی صورت میں، اس فیصلے کو واپس لینے کی درخواست کریں۔

اپنے مقدمے کی فائل کے کچھ حصوں تک رسائی

- آپ یا آپ کے وکیل کی درخواست پر، کسی ممکنہ حراست کی توسیع سے پہلے، آپ فائل دیکھنے کا مطالبہ کرسکتے ہیں
- آپ کو حراست میں رکھنے کے لئے نوٹیفیکیشن ریکارڈ
- ڈاکٹرجس نے آپ کا معائنہ کیا ہے اس کی طرف سے فراہم کردہ طبی سرٹیفکیٹ یا سرٹیفکیٹس
- آپ کی سماعت کا تحریری ریکارڈ